FINANCIAL EXPRESS

MODERN STEELS LIMITED CIN: L27109PB1973PLC003358

Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022 Registered Office : G.T. Road, Mandi Gobindgarh (Punjab)-147301 Email: secretarial@modernsteels.com, Website: www.modernsteels.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, the 27th September, 2024 at 02.00 p.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

The Notice and Annual Report of 50th Annual General meeting of the Company have been sent to the members in the permitted mode. Those members who have registered their email addresses with the Company/Depository Participants have been sent such documents in electronic mode. Pursuant to MCA circular 09/2023 dated 25th September, 2023 and SEBI circular SEBI/HC>/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023, the physical copies of the Annual Report for the financial year 2023-24 are not being sent to the members. The Notice and full Annual Report is also displayed on the Company's website at www.modernsteels.com and on NSDL website www.evoting.nsdl.com **Book closure:**

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Remote e-voting:

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the electronic facility for transacting all the items of business mentioned in the notice through NSDL, which will commence on Tuesday, 24th September, 2024 at 09:00 A.M. and ends on Thursday, 26th September, 2024 at 05:00 P.M. During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 may cast their vote electronically. The remote e-voting shall be disabled by NSDL, beyond the said date and time.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 may obtain the login id and password by sending request at e evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.

Members may participate in AGM even after exercising right to vote by remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them as on the cut-off date.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote evoting.

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions mentioned after Note No. 23 of AGM Notice or contact National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai at email Id:evoting@nsdl.co.in or Phone No.:1800-22-44-30/1800-1020-990 who will address the shareholders grievances connected with the e-voting.

By order of the Board of Directors

For Modern Steels Limited

Company Secretary

Sd/-

Deepa

Place: Chandigarh Dated: 3rd September, 2024



Compliance Officer Tel: +91 84918 77114/ + 0191 2472729 Email id: cs@srmcpl.com; Website: www.srmcpl.com

NOTICE ON INFORMATION REGARDING 16th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/



Case No.: OA/369/2020 Date 17.05.2024 D. No.: 2110 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

> Exh. No. 22310 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

SH. HARJINDER SINGH

(1) Sh. Harjinder Singh R/o House No. 172 Village Sarangdev, Tehsil Ajnala District Amritsar, Punjab

(2) Smt. Kulwinder Kaur R/o House No. 172 Village Sarangdev, Tehsil Ajnala District Amritsar, Punjab

(3) Smt. Karanjot Kaur R/o House No. 172 Village Sarangdev, Tehsil Ajnala District Amritsar, Puniab

(4) Sh. Balbir Singh S/o Sh. Manmohan Singh R/o House No: 17, Jasraur Village Jasrauor Tehsil Ajnala Amritsar, Punjab

SUMMONS

Whereas, OA/369/2020 was listed before Hon'ble Presiding Officer/ Registrar on 26.04.2024.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 9364263/- (application along with copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted:

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial no. 3A of the original application;

iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such othe assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course o his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets & properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 04.10.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 29.04.2024

Signature of the Officer Authorised to issue summons



The O6th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Wednesday, 25th day of September, 2024 at 12:30 P.M. IST through Video Conferencin (VC)/Other Audio Visual Means (OVAM) to transact the business as set forth in the Notice of AGM In compliance with all applicable provision of Companies Act, 2013 and the rules made there under and Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. No. 10/2022 dated December 28, 2022, 2/2022 dated 5th May, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circula No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021 Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September 2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide Circular Nos. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05. 2023, SEBI/HO/CFD/CMDICIR/P/2020/79 dated 12th May 2020. SEBI/HO/CFD/CMD2 CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBUHO/CFD/CFD-PD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 hereinafter collectively referred to as SEBI Circulars) (collectively referred to as "SEBI Circulars" has permitted the holding of the AGM through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means ('OAVM'), without the physical presence of the members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast at https:// emeetings.kfintech.com/. Member participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of Companies Act. 2013.

HOAC FOODS INDIA LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS "HOAC FOODS INDIA PRIVATE LIMITED")

CIN: U15120DL2018PLC330739

Reg. Off.: D-498, 1st Floor, Palam Extension, Sector-7 Dwarka, New Delhi - 110077, India

Email: compliance@hoacfoodsindia.com | Website: www.hoacfoodsindia.com

- In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than thevenue of the AGM ("remote e-voting"), provided by KFintech and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.
- Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-2024 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.hoacfoodsindia.com and can also be accessed from the website of Stock Exchange Le. National Stock Exchange of India Limited Le., NSE at www.nselimited.com and Registrar and Transfer agent of the Company Le., https://evoting.kfintech.com. Members whose email ids are not registered with their Depository Participants are hereby requested to register/ update the same with the Depository Participants.
- Members holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date Thursday, 19th day of September, 2024, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of KFintech Techologies Limited (KFintech) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
- The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics means
- The remote e-voting shall commence on Sunday, 22nd day of September, 2024 at 9:00 A.M. IST
- The remote e-voting shall end on Tuesday, 24th day of September, 2024 at 5:00 P.M. IST and thereafter E-Voting through shall not be allowed;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, 19th day of September, 2024;
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday 19th day of September, 2024 may obtain the Login ID and Password by sending a reques at evoting@Kfintech.com. However, if a person is already registered with KFintech for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- Members may note that:
- The remote e-voting module shall be disabled by KFintech beyond 5:00 P.M. on 24th day of September, 2024 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently:
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again, and
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- /II. The Notice of AGM is available on the Company's website www.hoacfoodsindia.com and also on the KFintech's website https://evoting.kfintech.com.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means. Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact evoting@kfintech.com / einward.ris@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

> For HOAC Foods India Limited (Formerly Known as "HOAC Foods India Private Limited")

> > Rambabu Thakur **Managing Director**

DIN: 08084215

यूको बैंक (ल्ल) UCO BANK

ZONAL OFFICE, SHYAM NAGAR, DHARAMSHALA, DISTT KANGRA, HP-176215 Contact: 7650997138, 7415536000 E-mail: zodrmshala.sec@ucobank.co.in

ELECTRICAL AUDIT OF BRANCHES

Zonal Office, UCO Bank , Dharamshala desires to hire competent vendors for Electrical and Energy audit of 69 Branches/ Offices of UCO Bank located in Kangra, Hamirpur, Una, Bilaspur, Mandi, Kullu, Chamba and Lahaul Spiti Districts of Himachal Pradesh. For further details, vendors may visit the Bank's Website at www.ucobank.com. The application in sealed cover should reach at the above address on or before 25.09.2024. Zonal Manager,

UCO Bank Dharamshala

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED NOTICE

Regd. Office: "Radhika", 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabd- 380009 Branch Office: HDB FINANCIAL SERVICES LTD 2nd Floor Hari Complex near D-Corbiz Hotel behind Wave Mall, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226010

Whereas, The Authorised Officer Of Hdb Financial Services Limited Under The Securitization And econstruction Of Financial Assests And Enforcement Of Security Interest Act. 2002 (64 Of 2002) And In exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rules 3 Of The Security Interes enforcement) Rules, 2002 Issued Demand Notice To The Borrower/s As Detailed Hereunder, Calling loon The Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Said Notice With All Costs, Charges And xpenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrower/co-borrower Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To Borrower/co-borrower And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Property Asscribed Here Below In Exerise Of Powers Conferred On Him/her Under Section 13(4) Section 14 Of The Said Act Read With Rule 8 Of The Said Rules Of The Security Interest Enforcement Rules 2002 Or his 30.08.2024. The Borrowers In Particular And Public in General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings With The Property WIII Be Subject To The Charge Of Hdb Financial Services Limited For The Amount Specified Herein With Future Interest, Costs And Charges From The espective Date. Details Of Property Taken In Possession Are Herein Below

) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR: 2) LOAN ACCOUNT NUMBER; 3) LOAN AMOUNT; 4) DATE OF DEMAND NOTICE; 5) CLAIMED AMOUNT IN INR; 4) DETAILS OF SECURITIES;7) DATE OF POSSESSION

NAME OF THE BORROWER & CO-Borrowers : 1. S R Medicals: - 418/27ka Garhi Peer Kha Devidas Marg Lucknow-226003; 2. Nazira Khatoon:- H. No. 413/648 Momin Nagar Canpwell, Road, Lucknow-226003, 3. Magsood Ahmad Khan:- H. No. 413/648 Momin Nagar Canpwell Road Lucknow-226003 LOAN ACCOUNT NO. 1085281 LOAN AMOUNT: Rs. 25.00.000/- (Rupees Twenty Five Lakhs Only), DEMAND NOTICE DATE: 26-Aug-2021, AMOUNT CLAIMED: Rs 25.07.009.36- (Rupees Twenty Five Lakhs Seven Thousand Nine and Thirty Six Paise Only) as of 17-Aug-2021 and future contractua interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. NPA DATE -05-July-2020 : DETAILS OF PROPERTY: All the piece and parcel of the property - House Municipal No. 431/648N, Construction on Plot No. 3 & 4, part of I and Khasra No.- 745, 750, 757 situated at Baraura Hussain Bari Ward- Kanahaiya Madhavpur, Lucknow, admeasoring area 1480 Sqft owned by Magscod Ahmad Khan Bounded as - East- Plot No. 5, West- Plot No. 2, North-Araji Deegar, South-Road . DATE OF PHYSICAL POSSESSION: 30-Aug-2024

The Borrowers' Attention Is Invited To Provisions Of Sub-section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available To Redeem The Secured Asset.

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT Mr. Vikas Anand: 9711010384, HDB Financial Services Limited, BRANCH OFFICE: 2nd Floor Hari Complex near D-Corbiz Hotel behind Wave Mall, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Place: Lucknow, Date: 04.09.2024 Sd/- For HDB Financial Services Limited, Authorised Officer

MEDICAMEN ORGANICS LIMITED

CIN: U74899DL1995PLC066416 Reg. Off.: 10, Community Centre No 2, Ashok Vihar Phase II, New Delhi - 110052, India Email: cs@medicamen.in | Website: www.medicamenorganics.com

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

The 29th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Friday 27th day of September, 2024 at 01:00 P.M. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OVAM) to transact the business as set forth in the Notice of AGM In compliance with all applicable provision of Companies Act, 2013 and the rules made there under and Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosu Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. No. 10/2022 dated December 28, 2022. 2/202 dated 5th May, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021 Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September 2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide Circular Nos. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CiR/2023/4 dated January. 05, 2023 SEBI/HO/CFD/CMDICIR/P/2020/79 dated 12thMay 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2 CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/CFD-PD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 (hereinafter collectively referred to as SEBI Circulars) (collectively referred to as "SEBI Circulars") has permitted the holding of the AGM through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast at https:// emeetings.klintech.com/. Member participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of Companies Act, 2013. In terms of Section 108 of the Companies Act. 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than thevenue of the AGM ("remote e-voting"), provided by KFintech and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-2024 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company. Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.medicamenorganics.com and can also be accessed from the website of Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE at www.nselimited.com and Registrat and Transfer agent of the Company i.e., https://evoting.kfintech.com. Members whose email ids are not registered with their Depository Participants are hereby requested to register. update the same with the Depository Participants. Members holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date Saturday, 21st day of September, 2024, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of KFintech Techologies Limited (KFintech) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics means:

Tel.: 0172-2609001/2; Website: www.moderndairies.com Email: secretarial@moderndiaries.com NOTICE Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the members of the Company will be

MODERN DAIRIES LIMITED

CIN: L74899HR1992PLC032998

Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022

Registered Office & Works: 136 KM, G.T. Road, Kamal (Haryana)-132001

51

OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 16" Annual General Meeting ("AGM") of the members of the company will be held on Monday, 30" September, 2024 at 1.00 p.m. (IST) through video conferencing ("VC") (Other Audio, Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the companies Act. 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 read with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the companies act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Annual report 2023-24 consisting of Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2023-24, along with Board's report, Auditor' report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the company whose email addresses are registered with the company / depository participant(S). The aforesaid documents will also be available on the company's website at www.srmcpl.com and or the website of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com, on the website of Company's Registrar and Transfe Agent (RTA), Bigshare services Pvt Limited at www.bigshareonline.com and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e www.evoting.nsdl.com.

Manner of Registering / updating Email-Id, PAN and Bank details:

- a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholde scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self attested scanned copy of PAI card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@srmcpl.com .
- (b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16) digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadha Card) to cs@srmcpl.com
- Members holding shares in dematerialised mode who have not registered /updated their ema address PAN and Bank account details with their Depository Participants, are requested to register / update their email address with the Depository Participants with whom they maintain their Demat accounts

Further as per SEBI Circular(s) the company had already sent communication/letters to those shareholders, holding shares in physical mode for mandatorily furnishing PAN, KYC and Nomination details

Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of the AGM to be dispatched and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting during the AGM.

Shareholders may please note that in terms of aforementioned circulars, the company will no send physical copies of AGM Notice and Annual reports to the shareholders.

This notice is being issued for the information and benefits of all the members of the company and is in compliance with the applicable circular of the MCA and SEBI.

> For, SRM CONTRACTORS LIMIT Sanjay Meh

> > Managing Direc

DIN: 022744

Date :04-09-2024 Place : Jammu



VARDHMAN POLYTEX LIMITED

Regd. Office: Vardhman Park, Chandigarh Road, Ludhiana-141 123 CIN: L17122PB1980PLC004242, Phone: 0161- 6629888 E-Mail- secretarial@vpl.in, Website: www.vpl.in

PUBLIC NOTICE- 44th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that:

- 1. The 44th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Friday, the 27th day of September, 2024 at 11:00 A.M. at the registered office: Vardhman Park, Chandigarh Road, Ludhiana- 141123 to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 14th August, 2024.
- Notice of AGM and Annual Report have been sent via email to all the members whose E-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are also available on the website of the company at www.vpl.in and on the website of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 3rd September, 2024.
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cutoff date 20th September, 2024, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through e-voting facility provided by Central Depository Services Limited (CDSL) (remote e-votino) or at the AGM through

The Notice and Annual Report of 32nd Annual General Meeting of the Company have been sent to the members in the permitted mode. Those members who have registered their email addresses with the Company/Depository Participants have been sent such documents in electronic mode. Pursuant to MCA circular 09/2023 dated 25th September, 2023 and SEBI circular SEBI/HC>/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023, the physical copies of the Annual Report for the financial year 2023-24 are not being sent to the members. The Notice and full Annual Report is also displayed on the Company's website at www.moderndiaries.com and on NSDL website www.evoting.nsdl.com.

held on Friday, the 27th September, 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual

Book closure:

Means.

NODER

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Remote e-votina:

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the electronic facility for transacting all the items of business mentioned in the notice through NSDL, which will commence on Tuesday, 24th September, 2024 at 09:00 A.M. and ends on Thursday, 26th September, 2024 at 05:00 P.M. During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 may cast their vote electronically. The remote e-voting shall be disabled by NSDL, beyond the said date and time.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 may obtain the login id and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote

Members may participate in AGM even after exercising right to vote by remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them as on the cut-off date.

A person whose name is recorded in the register of members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting.

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions mentioned after Note No. 23 of AGM Notice or contact National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai at email Id: evoting@nsdl.co.in or Phone No.:1800-22-44-30/1800-1020-990 who will address the shareholders' grievances connected with the e-voting.

By order of the Board of Directors	
For Modern Dairies Limited	
Sd/-	
Shruti Joshi	Place: Chandigarh
Company Secretary	Dated: 3rd September, 2024

SURAJ INDUSTRIES LTD

Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh 173212 Corporate Office: F-32/3, Second Floor, Okhia Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Email id:- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org

CIN: L26943HP1992PLC016791 Contact No: 01970-256414

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the members o M/s Surai Industries Ltd will be held on Thursday, September 26, 2024 at 3:30 P.M. IST through Video Conferencing ('VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out n the Notice of the AGM in accordance with the MCA circulars No.14/2020 dated April 08 2020; General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020; General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020; General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021; General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021; General Circular No. 21/2021 dated December 14 2021 General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 respectively ("MC/ Circulars circular dated May 12, 2020, May 13, 2022, January 5, 2023 and circular dated October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India providing relaxations to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (referred to as "SEBI Circular") and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereof and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time

The Notice of AGM along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting has been sent on Tuesday, September 03, 2024 through e-mail to al those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.surajindustries.org), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of CDSL (www.evotingindia.com).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of

Place: New Delhi Date : September 03, 2024	
Date : September 03, 2024	

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT I) 2nd Floor, SCO 33-34-35 Sector-17A. Chandigarh

Case No.: OA/1928/2019 D. No.: 1940 Date 04.05.2024 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No. 22198 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

HARPREET SINGH

(1) Harpreet Singh

D/W/S/O-Sh. Randhir Singh, H. No. 1486A, Sandhu Avenue, Chhehrta Amritsar, Punjab. (2) Smt. Sarabjit Kaur W/o Sh. Randhir Singh, H. No. D-27/489, Sandhu Colony, Block A, Nagar Nigam Ward No. 37, Chhehrta Amritsar Punjab.

(3) Kabal Singh S/o Sh. Jagir Singh, H. No. 99, Village Dhanola Kalan Amritsar, Punjab. **SUMMONS**

Whereas, OA/1928/2019 was listed before Hon'ble Presiding Officer/ Registrar on 22.04.2024.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 3042107/- (application along with copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial no. 3A of the original application;

(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal:

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets & properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 30.09.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 23.04.2024

Signature of the Officer Authorised to issue summons

GARG ACRYLICS LIMITED

Regd. Office : A-50/1, Wazirpur, Industrial Area, Delhi-52

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING "AGM" REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Garg Acrylics Limited will be held on Friday, the 27th Day of September, 2024 at 03:00 p.m. at the Registered Office A-50/1. Wazirpur Industrial Area. Delhi-52 to transact the Business, as set out in the Notice of AGM.

Notice of 40th AGM along with Annual Report has been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 40th AGM and Annual Report have been sent to all other members whose email ids are not registered, at their address in the permitted mode. The above documents, along with this notice, would also be available on the website of the Company at www.garoitd.com and on the website of stock exchange www.msel.in and also on www.evotingindia.com.

Book Closure : Pursuant to the provisions of Section 91 of Companies Act 2013 and other applicable provisions, the Registers of Members and Share Transfer Books of the UTo, Company shall remain closed from Friday September 20, 2024 to Friday September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Remote E-Voting - The Company has provided electronic voting facility for tra

The remote e-voting shall commence on Tuesday, 24th day of September, 2024 at 9:00 A.M. IST

The remote e-voting shall end on Thursday, 26th day of September, 2024 at 5:00 P.M. IST and thereafter E-Voting through shall not be allowed;

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM i Saturday, 21st day of September, 2024;

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 21st day of September, 2024 may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@Kfintech.com. However, if a person is already registered with KFintech for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

Members may note that:

- The remote e-voting module shall be disabled by KFintech beyond 5:00 P.M. on 26th day of September, 2024 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently:
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again, and
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- II. The Notice of AGM is available on the Company's website www.medicamenorganics.com and also on the KFintech's website https://evoting.kfintech.com.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact evoting@kfintech.com / einward.ris@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

For Medicamen Organics Limited

BalKishan Gupta

Managing Director DIN: 00032772

Place: New Delhi Date : September 03, 2024

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT-1) 2nd FLOOR, S.C.O. 33-34-35, SECTOR-17A, CHANDIGARH

Case No. : OA/1219/2023 Summons under Sub-Section (4) of section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 21816 **PUNJAB & SIND BANK** VS

M/S HARMANDER TRADING COMPANY

(1) M/s Harmander Trading Company, Near Mahalaxmi Palace, Muktsar Road, Kotkapura, District Faridkot-151204 through its

 ballotforms. All the members are informed that: The businesses as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means; The remote e-voting shall commence on 24th September, 2024 (9:00 a.m. IST); The remote e-voting shall end on 26th September, 2024 (9:00 a.m. IST); The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20th September, 2024; E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on 26th September, 2024; Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 may cast their votes by following the instructions and process of e-voting as provided in the notice of AGM. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 05:00 p.m. (IST) on 26th September, 2024 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and c) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of heneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting in Annual General Meeting; Wii. The Notice of AGM is also available on the CDSL's website http://www.evotingindia.com; In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com or call 18002109911. M. <i>K</i>. Ajay K. Ratra, Company Secretary (e-mail: ajay.ratra@vpl.in) may be contacted at the above stated contact details, in case of any grievances connected with the	 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The remote e-voting period will commence at 10:00 A.M. (IST) Monday 23th September, 2024 upto 5:00 P.M. (IST) on Wednesday, 25th September, 2024. During this period, Members may cast their vote electronically. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Wednesday, September 25, 2024. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Once the member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM are -voting quring the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 19, 2024 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the Company as on September 19, 2024 ('cut-off date'). Any person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the electronic dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cutoff date, may obtain the login ID and password ty sending a request to helpdesk evoting @cdslindia.com. However, if the person is already registered with COSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. Members holding shares in physical form, kindly provide your name, folio number, e-mail address to be registered along with Scanned copy of the share certifficate (front and back), self-attested scanned copy of FAN	 Intry cast their votes damp an electronic voting system none a prace ordine than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 24th day of September, 2024 at 10:00 a.m. and will end on Thursday, 26th September, 2024 at 5:00 p.m. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. Only the Members, whose name appear in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 20th September, 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Members, who have not registered their e-mail address with the Company/Depository, Please registered your e-mail ID for obtaining Annual Report, Notice of AGM and login details for e-voting. 1. For Physical shareholders - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id. 2. For Demat shareholders - Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of AAdhar Card) to Company/RTA email id. In case of any queries or issues regarding e-voting members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact at (022-23058738, 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East). Mumbai-400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call to nelpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-23	 (2) Smt. Charanjit Kaur W/o Gagandeep Singh, Near Mahalaxmi Palace, Muktsar Road, Kotkapura, District Faridkot-151204. (3) Gagandeep Singh S/o Gurmail Singh, Near Mahalaxmi Palace, Muktsar Road, Kotkapura, District Faridkot-151204. (4) Gurmail Singh S/o Puran Singh, Near Mahalaxmi Palace, Muktsar Road, Kotkapura, District Faridkot-151204. (4) Gurmail Singh S/o Puran Singh, Near Mahalaxmi Palace, Muktsar Road, Kotkapura, District Faridkot-151204. (4) Gurmail Singh S/o Puran Singh, Near Mahalaxmi Palace, Muktsar Road, Kotkapura, District Faridkot-151204. (4) Gurmail Singh S/o Puran Singh, Near Mahalaxmi Palace, Muktsar Road, Kotkapura, District Faridkot-151204. (4) Gurmail Singh S/o A/1219/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 22.03.2024. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 1,57,92,748.58 (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the application under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties is pecified or disclosed under serial number 3A of the original applic
with the e-voting. For Vardhman Polytex Limited Sd/- Adish Oswal Place: Ludhiana Date: 04.09.2024 DIN: 00009710	shares. All the members are requested to kindly get their shares dematerialization of the company's By order of the Board of Directors of M/s Suraj Industries Ltd Sd/- Place: New Delhi Date: 03.09.2024 (Company Secretary)	By Order of the Board For Garg Acrylics Limited Sd/-	furnished to the applicant and to appear before Registrar on 10.09.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this dated











ار ال

Friday 06 September 2024

والمطلن// امریکی انتظامید کے ایک اطل عمد

دار کے مطابق فز و کی بٹی تل فائر بندی کے لیے امريكا كا نيا منصوب واقعتا 90 م منظور او چكا

ب- مذكوره مورف دار في انترنيث

ذريع ايك خصوصى پريس كانفرنس ش صحافيوں كو

بتایا که به مجموتا سرف 18 براگراف پر مشمل

ب-ان ش - 14 بدراكراف يركام عمل كر

لياكياب اوريه مابتدتجاويز ب مطابقت ركمت ی یو یا بار به مراجع م مراجع مراج

اور دیگر تین کا تعلق قیدیوں کے تبادلے ت

ب ماس کے 2جوائی کے بان کی روش ش

ب- امریکی انتظامید کے عجد دار کے مطابق

ال مجموع شي فلاؤ الماراه داري كاذ كرميس ب

بلكه اس بي تمام تنجان علاقول - اسرائيلي فوت

کے انخلا کو فرش کیا گیا ہے۔ عہدے دار کا کہنا

بينالاقوامى INTERNATIONAL 10

_______ ین سےمذاکرات کیلئے تیار میں : پوتین

کی میز پر پیش کردہ مجموتے میں حماس کی زیادہ تر مالکیں پوری ہوری ڈی۔ تاہم تنظیم طبح کم کرنے کے لیے بیش کردہ مجموتے پر آمادگی کے لیے نسبتا کم تیار ب-البتدة - واران فے باور کرایا ک معلد ے مسودے کی زیادہ ترشقوں پر اتفاق او چکا ب- امر کی صدر جو بائیڈن نے فلاؤ لفیا راہ داری کے حوالے سے اس ائٹلی دزیراعظم کے بيان پر ناراضى كااظهار كيا-اى طرح فلا ولغياراه داری میں فوج برقر ارر کھنے پرقائم رہنے کے بیان في مصر كوبيمي چراغ يا كرديا-كذشد اتوار -اسرائیل میں مظاہرے دیکھے جارہے ہیں۔ ان کا مقصد حکومت پر دیاة ژال کرات فاتریندی اور ير الدور كارباق معلق معام ير آمادك کے لیے مجور کرنا ہے۔ ام ایکی فوج کے اندازوں کے مطابق غزہ کی پٹی کے اندر 100 کے قريب امرائلی قيدى بنى بن بن 164 بى -13.07



غزه کی جنگ ختم کرنے کیلئے نیاام یکی منصوبہ 90 فیصد منظور ہوچکا ہے

اعلان كيا تلحاكه والطلن غزوكى بات چيت م تھا کہ غزو کی ہٹل کے حوالے سے نٹی امریکی تحاویز وست بردار مين موكا كيول كدو 11 ماد محادى پر عمل درآمد کے بیتی میں وہاں جاری جنگ مکل د . دیک محم کرانا چاہتا ہے۔امریکی انحبار وال طور پر رک جائے گی۔ جیل ہی موجود قیدی اور اس يد جرئ ك مطابق ف داران ف مريد اسرائیلی فوج کے انتخلا کے علاقے یہ دو امور لہا کہ اسرائیل نے کو رمانتیں چش کیں تا کہ مجموتي تك فتشخف شاركادت سنة دوسة شار ی مجموتے تک تکی کرحمان کے ساتھ قیدیوں غزه كرموال معالده داو فى صورت ش کے تبادلے اور فائر بندی کو ممکن بنایا جا اسرائیل کی سلامتی زیادہ برے مطرب میں ہو گی-یادر ب کد با تیرام کی ذے داران فے ب ملے۔امریکی ذہے داران کے مطابق مذاکرات

اسراييكي فوج كاايك گاڑى پر بم حمله

5فلسطينى شھيداور 4زخمى

طرد//مقربى كتار بن اسرائيلى فوج ت ايك كالرى يرتعل بن شهيد بو والے 5 قسطینوں میں سے ایک سیوٹی تمل میں امیر اللج کے کماف رکا بنا ب-عرب ميديا ي مطابق اسرائيلي جاديت كايدوا تعد مقربي كمار - ي شال ما تے طوباس میں مثل آیا جب ایک گاڑی کو قضائی سملے کا نشانہ بنایا كمارا مراعلى قون فى عطرى تصديل كرت جوت بتايا كد امراعلى فوجون ے طلاف محطرہ بنے والے سل افراد کی کاری پر 3 میزائل دائے۔ جس میں المشان پر 3 میزائل دائے۔ جس میں المشان پر 3 میز یا کو تایا کہ اسرائي فوج فيطوياس كطاق ش القارم يناوكز بمن كيمب يردهادا يوايص کر بعد متعد دها کے بنے تھے فلسطینی وزارت سحت کی جانب سے جاری بیان ى كاكاب كدامواعلى مرارى عن 5 فلسفى شيد م كي جب ك ماد مين ش ب 2 كى مالت نازك بتائى مارى ب-شيد بد ف والول ش ب ايك فرجوان فسطین اسمروان از اراد میدی کا مطاب رز اراد مدی ف 2002 می انتقاضا من بذك لوى فى اور بعدازال كرفار مو ك ف - ادر ب ك 2021 علوداسلام بهاد كردكر وايرون كساهم تك مودر وعل باير فظ ين كامياب ووفى تحتا مم يحددون بعد يكر في تق ادرب كددوال ماء کی ابتدا ب جاری مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی فوج کے آپریش میں شہید ہونے دالے قلطینیوں کی تعداد 40 ہوگئی جب کہ 140 سے زمیز کی تل ۔

افغانتان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے حساس ترین 10 ممالک میں شامل کابل// الغانسان ان 10 ممالک بن شام مو ایا ب جومومیاتی جدیل کروالے سے سب سے زیادہ صاس الد المؤسِّل آركنا تويقن فارمانيكريش (آن ادايم) في جعرات كواكد مورف جاري كرتي ووت الطار 3 دى- آني اد الم کے مطابق عالی کارین کے افران ٹیں کم سے کم صد ڈالنے کے بادجوں افغانستان موہ یاتی تبدیلی سے سب سے زیاد دمتا شر

ہونے والے مرقبرت 10 مالک ٹی سائل ہے ۔ آنی اوا تم لے کہا کہ موسانی تو بل کو 2022 تک الغانشان شہر والح الک مالان کا خیادی ترک سیلم کیا جاتا ہے تظلم نے کہا " آتی اوا تم کے احداد دخارے مطالق میں کی تبدی نے 2022 مالك شرائدونى على كاليادى ترك كطور برتازمات كالمك ب-"



Normalization options. Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of the AGM to be dispatched and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voling during the AGM.

Shareholders may please note that in terms of aforementioned circulars, the company will no send physical cooles of AGM Notice and Annual reports to the shareholders. This notice is being issued for the information and benefits of all the members of the company and is in compliance with the applicable circular of the MCA and SEBI.

For SRM CONTRACTORS LIMITED Sd/-Sanjay Mehta Managing Director DIN : 02274498 Date :04-09-2024 Place:Jammu Ma

بمتركبيه كساتوتعلقات مسايك معيارى تبديلي لاناجا ست يس مسرى مدر

" يس في ايردوان كرما الدافريد ي حكام كالي فرو ش الداد بالتجافي من کہا ہے کہ قاہرہ ترکی کے ساچ تعلقات حالات خاص طور پر صورا یہ کی صورت حال تعادن پر شکر بیادا کیا اور اس بات پر زور پر تبادلد میل کیا . ایوں نے کہا وصوالیہ دیا کہ اب ترقیح غزہ میں جنگ بدی ب - اسرائیل کو تط یم اس تام کرفے کے این پالیس کوندیل کرنا یں استحام ماصل کرتے پر شفق بیں۔ انیوں نے نشاندی کی کر ترکیے کے ساتھ چاہے۔ ہم اس بات کو بھین بنانے کے تمار يحارتى تعلقات شراكر شد برسول لے کام جاری رکھے ہوتے الل ک ين الذافد ويكف ش آيا ب- يم ال امرائيلي حكام كوثين الاقوامي عدالتون موالے مشاورت كومشبوط بنائے ك ک سامنے جوابدہ الممرایا جاتے ترک لے پرور بی اس موقع پر ترکید ک ف انکثاف کیا کدترکیدمعرک صدرايردوان في اعلان كيا كدتركيد مصر كساته فمام شعبول شارتعاون كررياب سالتھ کیس اور جوہری تواناتی کے شعبوں ين تعلقات كومضبوط بنانا جاجتا ب-ان اوريم تعلقات كومضبوط كرنا جارى ركصي کا ملک مصر کے پانٹ جوارتی کے۔ ہم مصر کے ساتھ اپنی مشاورت کو شراکت داروں میں ے ایک ب_واضح رہے اسیسی بدھ کوانقرہ پیچھ مطبوط بناتے کے لیے پرعزم الل-انہوں نے مزید کیا کہ ترکیہ خطے میں توایردوان فے ان کا استقبال کیا۔ان سلامتی اورامن کو بز هانے کے لیے مصر کے ساتھ تعاون کررہا ہے۔ ہم فلسطین کاس بر مثل ددر کامقسدتر کیداد مصر کے درمیان ایک عشرے کی دوری کے معالمے پر معر کے ساتھ مشترکہ موقف رکھتے بیا۔ ایردوان فے مصرى کے بعد مفاجب کو ماصل کرناہے۔

قابر ا/معرى مدرحيدالقات السيسى في برايك خام طرقام كرف كرفيك ارداب السيى فيده كديزافقره یں اپنے ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس كالفرس ك دوران كيا" بم تركيد ك ما الفاقلة على أيك معاد كا تد في النا بابت يل "انيول في مندكها كدانيول فايردوان كماته خط كريرانون خاص طور پرغزه کى جنگ ے تمض ك بارت الانيل كيا-انجال فيد كماكر "جم غزوش فورى جنك بندى كا مطالبہ کرتے ہی۔" انہوں تے بیجی کہا "م فركد كما الالياش عكود لى الك كرف كاخروت يديمى القاق كيا-" عبدالقتان السيح ففرورديا كدمصرتركيه ادرشام يحدم مان تعادن كى ومششول كا فيرمقدم كرتاب معرى مدد في مزيدكما

ترک صدر رجب طیب ایردوان کا طور پر ڈان یاس ش ایے حملے کو رد کمیں۔ اود نیاس تماری ترقی ہے۔ ستمبر 2022 شاروں نے تین دیگر

فككرية بحقى اداكيا ادركها كدكنى ددسم عرب ممالک نے بھی اس معاہدے کی سبولت فراہم کی ہے۔تاہم پوتین فے يوكريني علاقول ك ساجد ذوبيشك ويكرعرب ملكون كانام فيس ليا يليكرام كمشرقى علاق كردي كرماجه اتیل کیشن کے بانی کے معالمے کے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ روٹ کے صدر ولاديمير يوتن في جمعرات كوا كل فومبر بارے شی روی صدر لے کہا کہ وہ فرانس کی جانب سے گزشتہ ہفتے وہاں یں ہونے والے امریکی صدارتی سركاري تحقيقات كانشاء بن ك بعد التخابات ش في يوكر يلك اميدواركما ہیرس کی حمایت کی تصدیق کی۔ واطن نے ماسکو پر التقابات میں یاول دوروف کے خلاف اشحائے گئے اقدامات كو تج في الما الموال في مزيد كما كه فرانسيسي اقدامات" التخابي" مداخلت کا الزام لگایا ہے جس کی بعد تیں۔ انہوں نے کہا میری دوروف ازان ترديد كردى كلى والادى ووسلوك ے برسول بہلے صرف ایک بارطاقات یں ایک اقتصادی فورم کے دوران يقتن في كما كدام كى مدرجو باتيدن ہوتی تھی لیکن میں نے دوروف سے فے اپنے ووروں كو كملا تيريس كى رابط فيس ركما- ياور ب كريملن ك ترجمان دمتری ویسکوف نے کرشتدماہ مايت كرف كى مفارش كى بوليدا کیا تھا کہ انہیں پوتین ادر دوردف ہم بھی ان کی حمایت کریں گے۔ انہوں کے درمیان ہوتے والی ملاقات کاعلم فے کہا ریمیلکن امیدوار اور سابق صدر مہیں ب۔ دوروف کے بارے میں ا وطلا ارم في دوس پر يبت مى فرانسين تحقيقات كالعلق دهوكه دبي منى بابتديان ماتدكى الدروى مدرف لاتذرتك اوريجول كيجنى استحصال لها كه ووسعودى ولى محيد شيراده محد بن سلمان ت ظکر ترارین جنبول فے مرد ہیے جرائم کے لیے کیلی گرام پلیٹ جل کے بعد امریکہ اور روی کے فارم کے استعال سے ب- دوروف کے وکیل نے اپنے موکل کے غلاف ورمان قدروں کے سب سے بڑے المحمائ كلخ اقدامات كوغير منطق قرار تادلے کے انظامات میں بدد کی۔ يفين في فيديون تباد في ميزانى، دياب-

اسکو//ردی صدر ولادیم نے کہا ہے لد كريك صوب شي موجود فوجى وت سور محال پر قابد پانے ش كامياب مو تحف يوكر في افوان ك يبيانى ب حالات متحكم بونا شروع بو کے۔ بوكرينى افوان روى كو فكت دين شاكام ري في - روى صدر فے عسکری حکام سے ملاقات کے دوران عنديد دياكه يوكرين ك فون كو ایک ایے وقت میں فقصان الخمانا پڑا جب ردی فوج نے پر کن ش مر یک پروسک کی جانب بیش رفت کی ہے۔ او کرین کے معالمے پر روی صدر ہوتین نے اطالن کیا کدا کر يوكرين درتواست كر _ توده 2022 ک موم بیار ش ہوتے والے مداکرات کی بنیاد پرکیف کے ساتھ فداكرات ك في تيار في - تاجم ما سكو كرمك كمعلاق يرتمله جواكست ش شرور می مواجعات بس منظر میں يوكرين كے سے كمى تكى قشم كى بات چيت كومستردكرتاب- يوثين في كما کد کیا ہم ان کے ساتھ بات چیت کے لي تاريد الم اياكر في می الکار میں کہا۔ انہوں نے مزید کہا۔ یوتین نے مات حارمی رکھی اور کہا روں کا "بنادی بدف" ہوکرین کے ادنیاس کے ملاقے کو تشرول کرنا ب- روى فون يور فا الوان كو كرمك ك علاق ت يح بل بر مجور کر رہی ہے۔ پیوٹی نے کہا کہ کرمک پر حملہ کرنے سے دہمن کا متصد بمارت اندرتناة كوبوا وينا اور ہمیں مجبور کرنا تھا کہ ہم اپنی افوان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ينطل كرين ادرابهم علاقون خاص

عمران خان نے حکومت کو عدلیہ کے اغتیارات سلب کرنے کے خلاف خبر دار کر دیا

استغاد کے آخری گواہ پر جرع تہیں ہو كى-قاصل بالح في الى ريغر فى مى بشرى في في فى بريت كى درمواست ير دلاتل بھی سے _ بشری بی بی کے وکیل میں ریائن گل نے دلائل دیتے ہوتے کہا کہ سابق وزیراعظم کی شريك ديات كواس كيس يلى تجعونا بچنسایا محیاادر مدالت سے استدعا کی کہ المیں بری کرد یاجات کیونکدالی کوئی محصوس بنیاد میں تھی جس سے ان کی سزا ستانى ما سكر ايك متعلقه فيش رفت یں، اسلام آباد بائی کورٹ نے مسٹر خان کی دکلاء فیصل چوہدری ادر کھیم يتوالها تك رساتى كى در تواست پر او یالہ بیل کے سیر متلامک کو نوٹس



كيوتك أهي ملاقاتيون ت اللي ك

نے حالیہ میچوں میں کر کٹ ٹیم کی خراب كاركردكى يرياكتان كركت يورؤ ك اجازت نبين تتى قبل ازي اعتساب چیتر بن محسن فقو می کو بھی تعقید کا نشاء مدالت کے بعج ناصر جاوید رانا نے بل بنايا-ماين وريداعظم في كما كدماين في في 190 ملين كريش ريفرش ك وزيراعظم نوازشريف جيل بي كى س ساحت دوباره شروع كى - تابهم وكيل می اللے کے لیے آزاد بل لیکن ان وقاع کی عدم موجودگی کے باعث ماری کا۔

کے مام انتخابات ش دھاتدنی کو بے التاب كرف ك بعد الابتد * بوك تصادر الزام لكاياتهما كدييف جسش ان کی پارٹی کے خلاف او گوں کے ساجروستان يس يى -ان كرمطابق بيف جسل بيف كشركوطلب كرت اگروہ اس میں ملوث یہ ہوتے۔مسٹر خان فی الزام لکایا کرمنیب فے القادر اس ادار کر کر در کر کی کوشش بونور ٹی کا عطیر دوک دیا ہے، جودیکی ملاقوں ك طلباء كوبغير كوتى فيوش فيس التعليم فراجم كرتى فلى-اليول في كما کہ یونیورٹی کی جدش ہے کم مرامات یافته طلباء متاثر ہوں گے۔میڈیا سے عامت کے خلاف استعمال کردی بات کرتے ہونے مسلر خان، جو ب مسلر خان نے نظاری کی کہ 1992 می پاکستان نے ورالڈک

سلام آباد// سابق وزيراعظم اور في في راوليشرى ك سابق تمصر 8 فرورى آنی کے پتیٹر ثن عمران خان نے بدھ کے روز فیردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے مدلیہ کے اختیارات محم کرنے کی کوسفش کی تو مُنائع جملتنا بردیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کریشن کیس کی ساعت کے بعد میڈیا سے تلظمو کرتے ہوتے خان نے کہا کہ عدلیہ ی امید کی کران ہے اور اگر حکومت نے کی تو ملک بھر ش بڑے والے ب مركول يراحقان كماجائ كارانهون فے دعویٰ کیا کہ حکومت پولیس اور قومی اهتباب تدورو (نیب) کو ان کی

فلسطيني مزاحمتي گروپ

حماس پر سوئزرلینڈ نے پابندی عائد کر دی ز یورچ /افلطین کے مواجق کروپ حاس پر مور رایند فے وہشت کردی کا الزام لك يوس بابدى ماتد كردى ب مالى خررسان ادار 2 مطابق حاس یر پابندی کے موالے سے سوئس تلومت نے قالونی مسود کے بھی منظوری دے دى ب يس كى طلاف ورزى پرتيد ياجرمانى كى مزاملرركى كى ب، اس مسود ب کوجلد ی متلوری کے لیے پارلینٹ بیج جاجا سے کا۔مقامی میڈیا کے مطابق حماس پر ایندی کے اس فیصلے تیج سور رابیشر کی بعود ی تطبیس ایس آئی تی اور بی ایل ب انی بن بنترین نے موسیک کورے کو میں میں میں مالی مالال کا کہا ہے۔ ب کر اس اقدام کے جد سور الینڈ کا اس انگرا تصطین شاز ہے میں والی کا کردار محتم جوماتے کا ۔

چین کے احتجاج کے باوجود ملائیشیا بحیرہ جنوبی چین کی تلاش نہیں روکے گا انورابراہیم

ماس کے خلاف جاردیت کوطول دینے کے لیے بڈا کرات کا

کے اہم لگات پر کام کرتا ہے۔ امریکی حکام نے کیا کرزیادہ تر

معلد ، يرا تفاق اوكيا م مدا كرات كاراب بحى دواجم ركادون سیب پر مان دی بی مندر اور می مراد مراد می مراد مرده سرحل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تیں، نیا مرده معلیدہ الگے بیتے یا اس سے تک جلدتیار کیا جا سکتا ہے۔ قلطینی

گیس کی تاش نے اس کی سرزین کی طلاف ورزی فرم پیلروناس، با پیلرولیم عیشل بر باد، ملا تیشیا ک کی ہے۔ ملکن تقریباً پورے بتونی تجرو تلکن پر تصوف اتصادی زواد کے اعد محرود خوان تلکن میں تودہ کاری کا دلونی کرتا ہے، جس میں قلیاتی، تیل اور کیس کے هجوں کو جلاتی ہے اور سالیہ برونانی، ملا تیشا، تا تیوان اور ویتام کے 0 20 برسول ٹی اس کا تیکن جمازوں کے ساتھ متحدد ناطیل میل کے قصومی اقتدادی زوز کے بکھ صے مقابلہ ہوا ہے۔ اتور نے کہا کہ تاتان نے تفصیلات شامل الد، جوان مي سے كن ممالك كى توانانى كى بتائے بغير ملا تيشيا كى تيل كى تاش كى مركز يوں كو رو کے لیے "ایک یا دو" احتاج کی نوٹ بھی الل الميكن ال بات پر زور ديا كه حكومت البنگ كو ابغ موتف كى ومتاحت جارى رك كى-انبول فے کہا کہ جم نے کہا ہے کہ جم دوسر اوگوں کی سرحدوں ہے تجاوز کہیں کریں گے۔ پیکاری سخت

ليقاكرات كاستعل كرتي تدر

تلاش كى كومششول كوطيعيد بنا رب الل - يك الاقوامى قانون كے تحت، أيك خصوصى اقتصادى زونز خود مخارى كوظا مرتمين كرتا اليكن كسى ملك كو ان پانیوں نے قدرتی وسائل لکالنے کے لیے اور محاد حقوق ويتاب ما المينيا كى ريائ تواتاتى

كما القيا ، يس اي ي إيون ش كام كرنا موكا ور اب علاق ثل تيل كى كعدائى سميت التصادى فائده ماصل كرة بوكاريم في (تتن ك ساتد (بات چیت کے امکان سے مجھی الکار میں کیا۔لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اپنے علاقے ہی آيريش روكنا يزي كل ملائيشيا كي وزارت خارجه نے بدرہ کو کہا کہ دہ چینی وزارت خارجہ سے تعقیہ مفارتى نوف كرليك موفى كالتحقيقات كرب گى-اى نوت شى، جو ايك فلياتى خبر رسان ادارے کے ذریعے کیا گیا، تجنگ فے زوردے كركها كديجيره جنوبي تتكن يمي ملائيشيات تلى ادر

لوالالمجورا/ ملائيشا] وزير اعظم الور ايراجيم باوجود که ملائیشا اس کی مرز بین کی خلاف درزگی کر رماے، ملک بنونی بحیر وچین بٹرا تیل ادرکیس کی تلاش فہیں روکے کا۔ اور نے روس سے بات القريع جال دومركارى دور يريش، لبا كدما تيشيا كى تلاشى كى سركرميان اس كى حدود یں تقیم اور ان کا متصد تین کے خلاف اشتعال الگیزی یا ڈشمنی نہیں تھا، جس کے ساتھ اس کے دوستاء تعلقات الى ، انور في ولاد يستوك ين شلی ویدن پرتشر ہونے والی پریس کانفرس میں